



سوال

کیا مصحف میں علامات وقف کی پابندی کرنا واجب ہے؟

جواب

الحمد للہ

اول:

بلاشبہ آیات کے وقف اور ابتداء کا علم بہت ہی شاندار علم ہے؛ کیونکہ اس سے تہذیب قرآن میں مدد ملتی ہے، جو کہ تلاوت کرنے والے ہر شخص سے مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(کتاب اَنْزَلْنَاهُ الْيَكُ مَبْرُكٌ لِيَذَرُوا آيَاتِهِ وَيَلْتَمِذُ كُرْهُ وَاُولَ الْاَنْبَابِ)

ترجمہ: یہ کتاب ہم نے آپکی طرف نازل کی ہے بہت بابرکت ہے، تاکہ اس کی آیات پر تہذیب کریں، اور عقلمندان اس سے نصیحت حاصل کریں۔ [ص: 29]

علم وقف وابتداء کیلئے متعدد علوم کی ضرورت پڑتی ہے، چنانچہ عظیم قاری ابن مجاہد کہتے ہیں:

"مقامات وقف کے بارے میں کامل علم صرف وہی رکھتا ہے جو نحوی، ماہر قراءات، عالم تفسیر و قصص، اور قصوں کو ایک دوسرے سے جدا دیکھنے کی صلاحیت رکھے، اور جس زبان میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس زبان کو بھی جانتا ہو" انتہی

"الاتقان فی علوم القرآن" (1/296)

قرآن کریم میں علم وقف کی بنیاد آیات کا معنی سمجھنے پر ہے، اور معانی میں اختلاف کی بنا پر قرآن کریم بھی کچھ جگہوں پر وقف کرنے کے متعلق مختلف آراء رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ایک مخصوص معنی کے اعتبار سے وقف کرتا ہے۔

اس لئے ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ: عامی شخص جو پڑھی جانے والی آیات کی تفسیر نہیں جانتا اس کیلئے افضل یہی ہے کہ قرآن مجید میں موجود علامت وقف پر پابندی کرے۔

دوم:

وقف کی جگہوں کا اہتمام کرنا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی وقف کی ان جگہوں کی مخالفت کرنا حرام ہے، تاہم جن جگہوں پر وقف کرنے سے بالکل فاسد معنی لازم آتا ہے تو ایسی جگہوں پر قصداً وقف کرنا حرام ہے اور کسی مؤمن سے اسکا واقع ہونا محال ہے۔

شیخ المقرئ عبدالفتاح مرصفی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"ہمارے ائمہ کرام نے جو کہا ہے کہ فلاں فلاں کلمہ پر وقف کرنا جائز نہیں ہے، اس سے انکی مراد اختیاری وقف ہوتی ہے، جس کے ذریعے تلاوت میں حسن اور رونق پیدا ہو، ان کی اس سے مراد حرام، مکروہ نہیں ہوتی؛ کیونکہ قرآن مجید میں ایسا کوئی وقف نہیں ہے جس کو ترک کرنے پر گناہ لے، یا کوئی حرام وقف نہیں ہے کہ جہاں وقف کرنے پر گناہ لے، کیونکہ وصل اور وقف اس طور پر معنی پر دلالت نہیں کرتے کہ وقف یا وصل نہ کرنے کی وجہ سے معنی بالکل ختم ہو جائے، تاہم جب کوئی حرمت کا سبب پایا جائے تو ایسی صورت میں وقف کرنا حرام ہو سکتا ہے، مثلاً: قاری بغیر کسی ضرورت کے (وَمَا مِنْ اِلَهٍ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَجِدُ) المائدہ/73 آیت میں لفظ "الہ" پر وقف کرے، یا (وَاللّٰهُ لَيَسْتَجِیْبُ مِنْ اِلْحٰقِ) الاحزاب/53 میں لفظ "لا" پر وقف کرے، یا پھر (وَاللّٰهُ لَيَبْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ) الصف/5 میں لفظ: "لا" پر وقف کرے، اس کے علاوہ اور بھی کئی وقف قبیح ہیں جو کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں کر سکتا جس کا



دل ایمان پر مطمئن ہو"

اسی کے بارے میں حافظ ابن جزری رحمہ اللہ مقدمہ جزیریہ میں کہتے ہیں :

"ولیس فی القرآن من وقفٍ وجب... ولا حرام غیر ما له سبب"

"ترجمہ: اور قرآن میں کوئی واجب وقف نہیں ہے، اور غیر سببی حرام وقف بھی کوئی نہیں ہے"

"ہدایۃ القاری الی تجوید کلام الباری" از مرصفی: (1/387)

چنانچہ اس بنا پر آپ کیلئے زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے، آپ اپنے حافظے سے تلاوت کریں، چاہے آپ کو وقف کی جگہوں کا علم نہ ہو، پھر آپ ایسی جگہ وقف کر سکتے ہیں جہاں وقف کرنے سے معنی تبدیل یا غلط معنی نہ ہو۔

واللہ اعلم